







(1) year due to unforeseen circumstances, the Ministry shall have the discretion to extend the duration of the Environmental Decision Statement, or to terminate it. In such circumstances the proponent shall write to the Minister for an extension clearly stating out the reasons for the delay.

ފަސަޅު ނުވަތަ ފުލުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ.

v. The Minister, or his designate, may issue a cessation order requiring persons working on a Development Proposal to cease working until the order is withdrawn, if:

v. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ.

a) This Environmental Decision Statement has been withdrawn or;

a) ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ.

b) There has been a breach of the conditions of this Environmental Decision Statement.

b) ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ.

vi. It is the Developer's responsibility to undertake all project activities in accordance with the relevant laws and regulations of the Maldives.

vi. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ.

vii. The Developer shall submit environmental monitoring report as outlined in Paragraph viii of this Environmental Decision Statement.

vii. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ.

004



ސ. ފުލުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމެވެ.



Failure to submit the requisite monitoring report may result in the suspension or revocation of the permit under this Decision Statement.

- iii. The Developer is aware that under the National Environment Protection Act (Law no. 4/93) and the Environmental Impact Assessment Regulations the Ministry reserves the right to terminate any activity without compensation if found that such an activity has caused significant, irreversible impacts on the environment.

viii. *مؤقتاً، مقررہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ مقررہ ضوابط کے تحت*  
*قانون (4/93) اور مقررہ ضوابط کے تحت*  
*اور مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*2012 کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*
- ix. All mitigation measures proposed in the EIA report for all the phases of the project shall be fully implemented.

ix. *مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*
- x. The environmental monitoring program outlined in the Environmental Impact Assessment Report shall be undertaken and implemented and summary environmental monitoring reports

x. *مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*  
*مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت*

004

ح. - مقررہ ضوابط کے تحت مقررہ ضوابط کے تحت



shall be submitted to the Ministry.

ماخذ مشيقتا ستر ذمما دواتر ستر ذمما

xi. The date of expiry stated in this Environmental Decision Statement is the duration given to commence the project activities approved under this Environmental Decision Statement.

•xi جرم ذمما ستر ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما

جرم ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما

قرب ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما

xii. Once the project activities have started, the Proponent must inform the Environmental Protection Agency, the date of commencement of project activities.

•xii ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما

جرم ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما

جرم ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما دواتر ستر ذمما

**Date of Issue:** 15<sup>th</sup> November 2016

قرب ذمما جرم ذمما: 15 ستر ذمما 2016

**Date of expiry:** 15<sup>th</sup> November 2017

قرب ذمما ستر ذمما: 15 ستر ذمما 2017

**Name:** Ibrahim Naeem

ستر ذمما: قرب ذمما ستر ذمما

**Designation:** Director General

قرب ذمما: ذمما ستر ذمما



**Signature:**

ستر ذمما: [Handwritten signature]